

کمپیوٹر سائنس (حصہ معروضی) گروپ پہلا



کل نمبر: 10

وقت: 15 منٹ FBD-G1-22-7833

Objective Paper Code

سوال نمبر ۱ ہر سوال کے چار گزینہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کالیب پر ہر سوال کے مطابق متعلقہ واژہ کو مار کر یا پہنچانے سے بھروسہ بھیجنے۔ ایک سے زیادہ واژوں کو پہ کرنے یا کاٹ کر پہ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب خلاف قصور ہے۔

D	C	B	A	Questions / سوالات	نمبر شمار
6	5	3	2	اس کوڈ کی آٹھ پٹ کیا ہوگی؟ <pre>int add (int a , int b) { return a + b; } void main() { printf ("%d", add(3, 2)); }</pre>	1
4	3	2	1	ایک فونکشن _____ سے زیادہ قیمتیں ریٹن نہیں کر سکتا۔ A function cannot return more than _____ values.	2
تکراری Repetitive	تکرار پر ہی Recursive	بلٹ ان Built-in	یوزر ڈیفیند User-defined	سینٹرال ڈالجیری میں موجود فونکشن _____ ملائتے ہیں۔ The functions which are available in C standard library are called:	3
معینہ Nested	Do-While	While	For	لوپس کے اندر لوپس کا استعمال _____ لوپس کہلاتا ہے۔ Using loops inside loops is called _____ loops.	4
2 - 10	1 - 10	0 - 9	0 - 10	اگر اے کا سائز 10 ہے تو اندر یکسری ریچ ہوگی: If size of an array is 10, the range of indexes will be:	5
Complex	Infinite	Dual	Nested	ایک سلیکشن شیٹ کے اندر دوسری سلیکشن شیٹ کا کہاں ہے۔ A selection statement within another selection statement is called _____ selection structure.	6
ارے Array	سلیکشن Selection	فونکشن Function	ریلیشن Relation	کوئی نڑوں شیٹ ہے؟ Which is a control statement?	7
<=	()	""	;	C لینگوچ میں _____ بطور شیٹ ٹرمینیٹر استعمال ہوتا ہے۔ In C-Language _____ is used as statement terminator.	8
==	=	>=	<=	کونسا آپریٹر اسائنسٹ آپریٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ Which operator is used as assignment operator?	9
ڈی بگ A debugger	IDE	ایڈیٹر An editor	کپیکر A compiler	ایک سافٹ ویئر جو پروگرام کو کمپیوٹر پر پروگرام لکھنے میں مدد چاہے کہلاتا ہے： A software that facilitates programmer in writing computer programs is known as:	10

کمپیوٹر سائنس (حصہ انشائی) گروپ پہلا

وقت: 01:45 گھنٹے کل نمبر: 40

(Part - I) (حصہ اول)

FBD - 91-22

2۔ کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

ستیکس کی تعریف کیجیے۔ (i)

"C لینکنگ کیس میں ہے" کے بارے میں آپ کیا بات نہیں ہیں؟ (ii)

پروگرام میں مٹس لکھنے کے دو مقاصد میان کیجیے۔ (iii)

ماڈولس اپریٹر کی تعریف کیجیے۔ (iv)

اس ایکسپریشن کو حل کیجیے: $18 / (15 - 3 * 2)$ (v)

C لینکوں کا کونا نتیجہ سرکری پر آؤٹ پٹ دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ (vi)

3۔ کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

سلیشن شیٹس سے کیا مراد ہے؟ (i)

سینڈ سلیشن سٹرچر کا کیا استعمال ہے؟ (ii)

درج ذیل کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ (iii)

```
int a = 7;
```

```
if (a % 2 != 0)
```

```
    printf ("Odd");
```

```
else
```

کشوف شیٹس کی کوئی سی دروازام کے نام تحریر کیجیے۔ (iv)

کپیاٹ شیٹس کی تعریف کیجیے۔ (v)

ارے میں قسمیں لکھنے کے لیے لوپ کیے استعمال کی جاتی ہے؟ (vi)

4۔ کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

لوپ کی آئریشن سے کیا مراد ہے؟ (i)

اس کوڈ میں غلطیوں کی نشاندہی کیجیے۔ (ii)

```
for (int i = 1 ; i < 5 ; i ++)
```

```
{
```

پلٹ ان فلکٹر کی تعریف کیجیے۔ (iii)

```
}
```

فلکٹرنز میں ہمراہ میز کیا ہیں؟ (iv)

```
}
```

فلکٹن باڈی سے کیا مراد ہے؟ (v)

```
}
```

اس کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھئے۔ (vi)

```
int add (int a, int b)
```

```
{
```

return a + b ;

```
}
```

void main()

```
{
```

printf ("%d" , add(5 , 6));

```
}
```

حصہ دوٹھ، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔

Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 08 marks.

3+2+3 Explain the structure of C-program.

5۔ C کے پروگرام سٹرچر کی وضاحت کیجیے۔

2+2+2+2 فارمیٹ سپیفیکر کی تعریف کیجیے۔ C لینکوں میں استعمال ہونے والے مختلف فارمیٹ سپیفیکرز کی مثالوں سے وضاحت کیجیے۔


6۔ فارمیٹ سپیفیکر کی تعریف کیجیے۔ C لینکوں میں استعمال ہونے والے مختلف فارمیٹ سپیفیکرز کی مثالوں سے وضاحت کیجیے۔

Define format specifier. Explain different format specifiers used in C-Language with examples.

7۔ For لوپ استعمال کرتے ہوئے 21 سے 30 تک جفت اعداد پر نٹ کرنے کا پروگرام لکھئے۔

Write a program using For loop to print even numbers from 21 to 30.

رول نمبر:



جامعہ دہم کمپیوٹر سائنس (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

کل نمبر: 10

وقت: 15 منٹ Objective Paper
Code 7838 FDD 92-22

سوال نمبر 1 ہر سوال کے چار مکالم جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جواب کا لیے ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائرے میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرة کو مار کر یا چین سے بھروسہ بچھے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پہنچ کرنے یا کاٹ کر کرنے کی صورت میں نہ کوئی جواب ملٹا صورت ہو گا۔

D	C	B	A	Questions / سوالات	نمبر شمار
ریلیشن Relation	کنڈیشن Conditional	ریپیٹیشن Repetition	سیکوئنسل Sequential	C لینگوچ میں پہلے سے طے شدہ کنڈیشن کیسے کون ہے؟ In C-Language which is the default control structure?	1
ارچیٹیکل، ریلیشنل یا لوگیکل Arithmetic, relational or logical	لاجیکل Logical	ریلیشنل Relational	ارچیٹیکل Arithmetic	ایک کنڈیشن کوئی بھی _____ ایک پریش ہو سکتے ہے۔ A condition can be any _____ expression.	2
\$	*	%	&	فونکشن میں _____ آپ سرکوچول جانا بہت عام غلطی ہے۔ It is a very common mistake to forget _____ operator in the scanf function.	3
unsigned int	char	float	int	char سے _____ ان پڑ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ getch() is used to take _____ as input from user.	4
پرنٹ Print	کمٹس Comments	من Main	ہڈر Header	سیکشن میں لکھی جاتی ہیں۔ Include statements are written in _____ section.	5
لوپ Loop	فونکشن Function	کانسٹنٹ Constant	ویری ابیل Variable	ہدایات کا ایک بلاک جو کوئی خاص کام سر انجام دیتا ہے کہلاتا ہے: A block of statements that performs a particular task is called:	6
2	1	"2"	"1"	اس کوڈ کی آٹھ پڑ ہوگی: void abc () { printf("1/n"); }	7
آرگومنٹ Argument	ارے Array	ریٹرن ٹاپ Return type	بڑی Body	فونکشن میں char ہے: In function char is: char cd () { return 'a'; }	8
ارے کا انداز Array index	ارے کا سائز Array size	ارے کا نام Array name	ڈیٹا ٹاپ Data type	ایک مخصوص شناخت ہے جو ارے کا حوالہ دیتا ہے۔ is the unique identifier used to refer the array.	9
2 - 102	1 - 100	0 - 99	0 - 100	اگر ارے کا سائز 100 ہے تو انڈیکس کی رشخ ہوگی: If size of an array is 100, the range of indexes will be:	10

520-X122-35000

کمپیوٹر سائنس (حصہ انشائی) گروپ دوسرا

وقت: 01:45 گھنٹے کل نمبر: 40
 (Part - I) (حصہ اول)

08 Write short answers to any FOUR parts.

Define syntax error.

Why do we use comments in programming?

What is meant by IDE?

What is the use of relational operators?

What is meant by precedence of operators? Which operator has the highest precedence in C-Language?

Define statement terminator.

08 Write short answers to any FOUR parts.

Write the purpose of if else statement.

What is the output of the following:

```
void main ()  
{  
    int a = 7;  
    if (a % 2 == 0)  
        printf("Even");  
    printf("OK");  
}
```

Why do we need conditional statement?

What are selection statements?

What is meant by array initialization?

Declare an array which initialize height of five people.

08 Write short answers to any FOUR parts.

What is meant by user defined functions?

How many values a function can return?

Define a function with the name of sum which can add 2 numbers.

What is advantage of divide and conquer approach?

Write the names of any two loops which use in C.

Define nested loop.

FBD-G2-22

کوئی سے چارا جام کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) سنتیکس اپر کی تعریف کیجیے۔

(ii) پروگرام میں کٹش کیوں استعمال کرتے ہیں؟

(iii) IDE سے کیا مراد ہے؟

(iv) ریٹائل آپریٹر کیا کیا استعمال ہے؟

(v) آپ ٹریکی ترجیح سے کیا مراد ہے؟ لیکن کوئی میں کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے؟

(vi) شیئٹرمینٹ کی تعریف کیجیے۔

کوئی سے چارا جام کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) شیئٹ کا مقصود تعریف کیجیے۔

(ii) درج ذیل کی آٹھ پٹ کیا ہے؟

void main ()

```
{  
    int a = 7;  
    if (a % 2 == 0)  
        printf("Even");  
    printf("OK");  
}
```

(iii) ہمیں کہاں تیل شیئٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

(iv) سلیمان ٹیکٹش کیا ہوتی ہے؟

(v) ارے ایشا نریشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) ایک ارے ڈیلکٹر کیجیے جو پانچ لوگوں کی قاتمت ایشا نرکرے۔

کوئی سے چارا جام کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) یوزر زیفارت فنکشن سے کیا مراد ہے؟

(ii) ایک فنکشن کتنی دلیل یوریٹن کر سکتا ہے؟

(iii) "sum" کے نام سے ایک فنکشن ڈیفائن کیجیے جو کہ 2 نمبروں کو مجموع کر سکے۔

(iv) فتح کرو اور تقسیم کر کی حکمت عملی کا کیا فائدہ ہے؟

(v) C میں استعمال ہونے والے کوئی سے دو لوب کے نام تعریف کیجیے۔

(vi) میٹل لوب کی تعریف کیجیے۔

حصہ دوئم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔

Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 08 marks.

6+2

Define variable. Write six rules for naming a variable in C-language.

6+2

What are logical operators? Explain its types.

5- متغیر کی تعریف کیجیے۔ متغیر کو نام دینے کے چھ تو انین لکھئے۔

6- مطلق آپریٹر کیا ہوتے ہیں؟ اس کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔

7- for لوب کا استعمال کرتے ہوئے ایک پروگرام لکھئے جو پہلے دو قدرتی نمبروں کا مجموعہ پر نٹ کرے۔

Write a program using for loop to print sum of first 10 natural numbers.

520-X122-35000